


TROFAST



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent tip over this furniture must be used with the wall attachment device(s) provided.

Screw(s) and plug(s) for the wall are not included. Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls. If you are uncertain, seek professional advice. Read and follow each step of the instruction carefully.

Español

¡ADVERTENCIA!

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Para evitar que vuelque, este mueble se debe usar con el/los dispositivos de fijación a la pared que se incluyen.

No se incluyen los tornillos ni tacos de pared. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus paredes. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

Portugues

AVISO!

As quedas de móveis podem originar lesões graves ou fatais por esmagamento. Para prevenir a queda, fixe este móvel à parede com o acessório de fixação fornecido.

Não estão incluídos parafuso nem buchas. Use parafusos e buchas adequados às suas paredes. Caso não tenha a certeza, peça ajuda a um técnico. Leia e siga cuidadosamente as instruções.

中文

警告！

家具倾倒可能会导致严重甚至致命的压伤。为防止此家具倾倒, 请务必使用附带提供的上墙固定配件。

上墙用的螺钉与螺塞需另外购买。请使用适合您墙壁的螺钉和螺塞。如果不确定, 请寻求专业意见。请仔细阅读并遵循说明的每个步骤。

繁中

警告！

若家具傾倒可造成嚴重傷害或致命；務必使用產品附的上牆固定裝置，避免傾倒危險。

螺絲和塑膠壁栓需另購；請使用適合家中牆面的螺絲和塑膠壁栓；若你不確定牆面材質，請聯絡專業人員；請仔細閱讀並依照組裝說明安裝。

한국어

주의!

가구가 넘어질 경우 치명적인 부상을 입을 수 있습니다. 가구가 넘어지는 것을 예방하기 위해서는 반드시 가구를 벽에 벽고정 장치로 고정시켜야 합니다.

나사와 칼브력은 포함되지 않습니다. 벽에 맞는 나사와 칼브력을 사용하세요. 어떤 종류를 사용해야 하는지 궁금하시다면 전문가에게 문의하세요. 각 단계를 주의 깊게 읽고 따라 주세요.

日本語

警告！

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。家具の転倒を防ぐため、付属の固定用パーツを使って家具をしっかりと壁に固定してください。

壁固定用のネジ・ビスは含まれていません。取り付け面の材質に適したネジ・ビスや固定具を使用してください。不明な点がある場合は、専門家からのアドバイスを得てください。説明書を確認し手順に沿って進めてください。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN!

Tertimpa perabot yang terjungkir dapat menyebabkan cedera serius atau fatal. Untuk mencegah perabot terjungkir, perabot harus menggunakan perangkat pengencang dinding yang disediakan.

Sekrup dan baut jangkar untuk dinding tidak termasuk. Gunakan sekrup dan baut jangkar yang cocok untuk dinding Anda. Jika Anda tidak yakin, minta saran dari profesional. Baca dan ikuti setiap petunjuk dengan saksama.

Bahasa Malaysia

AMARAN!

Kecederaan himpitan yang serius atau yang membawa maut boleh berlaku akibat daripada perabot yang rebah. Untuk mengelakkan daripada rebah, perabot ini mesti digunakan dengan alat sambungan dinding yang disediakan.

Tidak termasuk skru dan palam untuk dinding. Gunakan skru dan palam yang sesuai untuk dinding anda. Jika anda tidak pasti, dapatkan nasihat profesional. Baca dan ikuti setiap langkah arahan secara teliti.

عرب

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث. ولمنع هذا الآثار من الإنقلاب، يجب استخدامه مع أدوات تثبيت الحائط المرفقة معه.

لم يتم تضمين المسمار (المسامير) والخشوة (الخشوات) الخاصة بـ تثبيت على الحائط. استخدم المسمار (المسامير) والخشوة (الخشوات) المناسبة لـ حائطك. إذا كنت غير متتأكد، فاستشر في مختص. اقرأ واتبع كل خطوة من التعليمات بعناية.

ไทย

คำเตือน!

หากเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อป้องกันอันตราย เฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำ ต้องยึดเฟอร์นิเจอร์ติดผนังให้แนบหนา โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย





สกรูและพูก้าหัวรับอีดูเฟอร์นิเจอร์ติดผนังไม่ได้ให้มาด้วย เป็นของตกแต่งเลือกใช้สกรูหรือพูก้าหัวที่เข้ากับอีดูเฟอร์นิเจอร์ติดผนังและแบบ หากไม่ได้ใช้วัสดุที่เข้ากันได้ กรุณาสอบถามผู้เชี่ยวชาญ โปรดล่าบคำแนะนำที่ให้มาโดยคุณและปฏิบัติตามที่ระบุข้างต้น


Tiếng Việt

CẢNH BÁO!


Khi sản phẩm nội thất bị ngã đổ có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người. Để ngăn đồ nội thất ngã đổ, bạn phải sử dụng các phụ kiện gắn tường đi kèm.

Không có ốc vít và tắc kê đi kèm. Sử dụng loại ốc vít và tắc kê phù hợp với chất liệu tường nhà của bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi ý kiến của người có chuyên môn. Cần thận đọc và làm theo từng bước của hướng dẫn.






14x




14x




16x




1x




2x



2x





2x





4x


12x

1









2**3**

4




5




6**7**


8




9





10




11



12



13



English

For your child's safety, be sure to attach the corner protectors firmly on the corners of all children's furniture.

These corner protectors are intended only for use on the corners of children's furniture. Never use them for any other purpose.

Do not use the corner protectors if damaged.

Clean the surface of the furniture with a dry cloth before attaching the corner protectors.

Use the adhesive tape on the back to attach the corner protectors on the corners of the furniture and press firmly. Avoid touching the adhesive surface with your fingers. Do not reuse the corner protectors.

Español

Por la seguridad de tu hijo, asegúrate de fijar bien los protectores de esquina en todos los muebles infantiles.

Estos protectores se deben utilizar únicamente en las esquinas de los muebles para niños. No los utilices para otros fines.

No utilices los protectores si están dañados.

Limpia la superficie del mueble con ayuda de un paño seco antes de fijar el protector. Utiliza el adhesivo de la parte trasera para fijar el protector en la esquina y que pegue bien. Evita tocar con los dedos la superficie adhesiva. No reutilices los protectores.

Portugues

Para uma maior segurança, coloque os protetores de canto nas extremidades de todos os seus móveis para criança.

Estes protetores de canto destinam-se apenas às extremidades de móveis para criança. Nunca os utilize para outros fins.

Não use os protetores de canto se estiverem danificados.

Limpe a superfície dos móveis com um pano seco antes de colocar os protetores. Utilize o autocolante na parte de trás para fixar os protetores nos cantos dos móveis e pressione com firmeza. Evite tocar na superfície adesiva com os dedos. Não reutilize os protetores de canto.

中文

为了孩子的安全,请确保儿童家具的所有突出角都覆盖有防撞角并加以固定。

防撞角仅适用于儿童家具,不可做其它用途。

损坏的防撞角不可用。

安装防撞角前,请用干布擦拭家具表面。防撞角背面带粘条,直接将其套到家具角上,按压固定即可。避免用手指接触粘条,影响粘性。防撞角不可反复使用。

繁中

務必在所有兒童家具的轉角加裝轉角防撞墊，以確保兒童安全。

轉角防撞墊只適合安裝在兒童家具的轉角。請勿做為其他用途。

轉角防撞墊受損時請停止使用。

安裝轉角防撞墊之前，先用乾布將家具表面擦拭乾淨。使用後面的雙面膠將轉角防撞墊黏在家具轉角，並壓緊固定。避免手指碰觸雙面膠表面。請勿重複使用轉角防撞墊。

한국어

어린이의 안전을 위해 어린이가구의 모든 모서리에 모서리보호대를 부착해주세요.

모서리보호대는 어린이가구 전용제품입니다. 다른 용도로는 사용하지 마세요.

모서리보호대가 손상된 경우에는 사용하지 마세요.

모서리보호대를 부착하기 전에 마른 천으로 가구의 표면을 닦아주세요. 뒷면의 접착테이프를 사용하여 가구의 모서리에 단단하게 붙여주세요. 접착면에 손가락에 닿지 않도록 주의해주세요. 재사용하지 마세요.

日本語

お子さまの安全のため、すべての子ども用家具の角にコーナープロテクターをしっかりと取り付けてください。

これらのコーナープロテクターは、子ども用家具の角に取り付けることを目的としています。他の目的に使用しないでください。

損傷している場合は、コーナープロテクターを使用しないでください。

コーナープロテクターを取り付ける前に、乾いた布で家具の表面を拭いてください。背面の粘着テープを使って、コーナープロテクターを家具の角に取り付け、しっかりと押します。接着面に指で触れないでください。コーナープロテクターを再利用しないでください。

Bahasa Indonesia

Demi keselamatan anak Anda, pastikan pelindung sudut sudah terpasang dengan baik pada semua sudut perabotan anak.

Pelindung sudut hanya dapat digunakan pada sudut perabotan anak. Jangan gunakan untuk yang lainnya.

Jangan gunakan pelindung sudut jika rusak.

Bersihkan permukaan perabotan dengan lap kering sebelum memasang pelindung sudut.

Gunakan pita perekat untuk memasang pelindung sudut pada sudut perabotan dan tekan dengan kuat. Hindari menyentuh permukaan perekat. Jangan gunakan kembali pelindung sudut.

Bahasa Malaysia

Untuk keselamatan anak anda, pastikan anda memasang pelindung bucu dengan rapi pada semua bucu perabot kanak-kanak. Pelindung bucu ini dihaskan kegunaannya hanya untuk bucu perabot kanak-kanak. Jangan sesekali gunakannya untuk sebarang kegunaan lain.

Jangan gunakan pelindung bucu jika ia rosak.

Bersihkan permukaan perabot dengan kain yang kering sebelum memasang pelindung bucu. Gunakan pita pelekat di belakangnya untuk memasang pelindung bucu pada perabot dan tekan dengan kuat. Elakkan menyentuh permukaan berpelekatan dengan jari anda. Jangan guna semula pelindung bucu.

ไทย

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ติดยางกันกระแทกเข้ากับบุบช่องเฟอร์นิเจอร์เด็กที่ขึ้นให้แน่น

ยางกันกระแทกบุบช่องเฟอร์นิเจอร์เด็ก เพื่อกันกระแทกเด็กขึ้น หัวบุบช่องให้แน่นเพื่อวัตถุประสงค์ดัง

หัวบุบช่องกันกระแทกบุบช่องได้: หากชำรุด

ใช้ผ้าแห้งเช็ดพื้นผิวนิ่งๆ ก็จะติดให้สะอาด ลอกกระดาษติดเทปขาวออก (จะว่องอย่างบุบช่อง) ติดยางกันกระแทกกลับไปเล็วๆ ให้แน่น ยางกันกระแทกที่ติดลงไปแล้ว ไม่ควรดึงออกเพื่อนำเข้าไปติดบริเวณอื่นอีก

Tiếng Việt

Vì sự an toàn của trẻ, hãy gắn miếng bọc bảo vệ góc thật chặt vào các góc cạnh của đồ nội thất dành cho trẻ em.

Miếng bọc bảo vệ này chỉ được thiết kế để dùng cho các góc cạnh của đồ nội thất trẻ em. Không sử dụng cho mục đích khác.

Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng.

Vệ sinh sạch sẽ bề mặt đồ nội thất bằng khăn khô trước khi gắn miếng bọc bảo vệ góc. Dùng băng keo để cố định mặt sau của miếng gạc vào các cạnh góc và ấn chặt. Tránh chạm vào băng keo bằng ngón tay. Không tái sử dụng miếng bọc bảo vệ góc.

عربى

سلامة طفلك، تأكدي من تركيب واقيات الزاوية بإحكام على جميع زوايا أثاث الأطفال.

هذه الواقيات مخصصة فقط لاستخدام على زوايا أثاث الأطفال. لا تستخدمنيها أبداً لأي غرض آخر.

لا تستخدمي واقيات الزاوية في حالة تلفها.

نظفي سطح الأثاث بقطعة قماش جافة قبل تركيب واقيات الزاوية. استخدمي الشريط اللاصق الموجود على الظهر لتنبيه واقيات الزاوية على زوايا الأثاث وأضغطي بشدة. تجنبني لمس سطح الشريط اللاصق بأصابعك. لا تقومي بإعادة استخدام واقيات الزاوية.